

Meeting of 7th IBSA Academic Forum

August 11, 2021

بھارت، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے 7 ویں اکیڈمک فورم کا اجلاس

11 اگست، 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر راج کمار رجن سنگھ نے بھارت، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے 7 ویں اکیڈمک فورم کا افتتاح کیا جسے 11-12 اگست 2021 کو ورچوئل طریقے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔

وزیر مملکت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ جمہوری نظریات کے اپنے عمل میں متحد ہیں، اور نو آبادیاتی وراثتوں کو اکھاڑنے کے خلاف دیرینہ لڑائی میں متحد ہیں، اور اقوام متحدہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ڈبلیو ٹی او اور ڈبلیو ایچ او سمیت کثیر الجہتی اداروں کی اصلاحات کو تیز کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ گلوبل ساؤتھ میں اتحاد ترقیاتی ایجنڈے کو مساوات، غیر مشروطیت اور عدم مداخلت کی اقدار کے ساتھ نافذ کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جبکہ انہوں نے پائیدار ترقی کے اہداف کی مرکزیت اور مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں کے اصول پر بات کرتے ہوئے متعلقہ صلاحیتوں پر زور دیا۔ وزیر مملکت نے جاری آئی بی ایس اے فیلووشپ پروگرام کے تحت کوششوں کو سراہا، اور شراکت داری اور تعاون کو آگے بڑھانے میں ناقابل تسخیر شراکت کو سراہا۔ انہوں نے آئی بی ایس اے فنڈ کا بھی تذکرہ کیا جس نے اپنے قیام کے بعد سے ان تمام سالوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور تعاون کے ایک ایسے ماڈل کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ واقعی 'جنوب کے ترقی' کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے اور ایس ڈی جی کے حصول کے لیے کثیر الجہتی حل کو آگے بڑھاتا ہے۔

اس دو روزہ ایونٹ کی میزبانی ریسرچ اینڈ انفارمیشن سسٹم فار ڈویلپنگ کنٹریز (RIS) کر رہی ہے، جو کہ بھارتی وزارت خارجہ کا ایک خود مختار تھنک ٹینک ہے۔ اس میں آئی بی ایس اے شیرپا کے ساتھ معاشی شراکت داری پر بات چیت کی گئی ہے جو کہ دوسری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ معاشی انضمام اور وبائی امراض کے بعد لچکدار ویلیو چین بنانے میں تعاون فراہم کرنے کے علاوہ ڈیجیٹل اور گرین ٹرانزیشن کے عمل کو تیز کرے گی۔ یہ فورم، جو کہ کووڈ 19 سے متعلقہ نقل و حرکت پر پابندی کی وجہ سے ورچوئل فارمیٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے، آئی بی ایس اے کے ترقیاتی تعاون کے اقدامات کو مضبوط بنانے پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ایونٹ میں تین اہم موضوعاتی سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو کہ ان موضوعات پر مشتمل ہیں 'فنڈ اور معاشی بحالی تک رسائی کے لیے

وبائی مرض کے بعد کی ضروریات؛ تجارت اور لچکدار ویلیو چین سے متعلق آئی بی ایس اے تعاون؛ ٹیکنالوجی اور جامع سماجی شعبے کی ترقی کے ذریعے وبائی مرض کے بعد لچک کی پیداوار۔"

ہندوستان آئی بی ایس اے کا موجودہ چیئرمین ہے۔ آئی بی ایس اے ایک انوکھا فورم ہے جو ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ، تین بڑی جمہوریتوں اور تین مختلف بر اعظموں کی بڑی معیشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، جنہیں اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئی بی ایس اے کی کامیابی ماہرین اور ٹریننگ کے تبادلے کے روایتی شعبوں سے ہٹ کر جنوب - جنوب تعاون کی چاہت اور فائدے کو اچھے طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔

نئی دہلی

11 اگست، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.